

برامپٹن کی سیاحت کا رہنماء برائے 2018 اب دستیاب ہے

برامپٹن، آن – ہر کسی کی مدد کے لیے کچھ نہ کچھ پیش کرنے والی، 2018 برامپٹن وزیٹر گائیڈ اب آن لائن اور طبع شدہ صورت میں دستیاب ہے۔ یہ رہنماء رہائشیوں اور سیاحوں کو برامپٹن میں تمام دلچسپ اور پر لطف چیزیں دیکھنے اور ان سے لطف اندوز ہونے کی منصوبہ بندی کرنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ قارئین کو شہر میں غیر متوقع دریافتوں اور غیر معمولی خصوصیات کی حامل منفرد جگہوں کو تلاش کرنے کی دعوت دیتا ہے۔

یہ رہنماء درج ذیل کے حوالے سے برامپٹن کو نمایاں کرتا ہے:

- کھانے پینے کے معتبر تجربات
- کمیونٹی کی معروف شخصیات
- تہوار اور تقریبات، جو لوگوں کو آپس میں قریب لاتی ہیں
- نمایاں سرگرمیاں اور دلچسپی کی چیزیں
- پوشیدہ قدرتی مناظر اور ان کے راستے
- فنون و ثقافت کی ایک پر جوش کمیونٹی

2018 برامپٹن وزیٹر گائیڈ کو ٹورزم ٹورانٹو، اونٹاریو ریجنل ٹورزم آرگنائزیشن #5 اور سٹی آف برامپٹن کے تعاون سے تیار کیا گیا ہے۔ پورے اونٹاریو میں ٹورزم انفارمیشن سنٹرز، جیمبر آف کامرس، ہوٹلوں، انڈسٹری ٹور آپریٹرز اور دیگر مقامات پر اس رہنماء کی نقول فراہم کی جاتی ہیں۔

رہائشیوں اور سیاحوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ برامپٹن سٹی حال سے ایک پرنٹ شدہ نقل حاصل کریں یا [ٹورزم برامپٹن کی ویب سائٹ](#) پر دستیاب ایک الیکٹرانک ورژن حاصل کریں۔

اقتباس:

"اگر آپ شہر سے باہر کے سیاحوں کی میزبانی کر رہے ہوں یا شہر کو بہتر طریقے سے جاننا چاہتے ہوں، تو اپنے منصوبوں کو حتمی شکل دینے کے لیے وزیٹر گائیڈ استعمال کریں۔ یہ رہنماء آپ کو اپنے شہر کی سیاحوں کے لیے دلچسپی کی چیزوں کو تلاش کرنے، عالیشان تہواروں، تقریبات اور کھیلوں کے ٹورنامنٹس میں شرکت کرنے اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے کئی پارکس اور راستوں سے لطف اندوز ہونے میں مدد فراہم کرے گا۔ نوجوان اور ثقافتی طور پر فعال، برامپٹن کے پاس آپ کے لطف اندوز ہونے کے لیے تقریبات، تہواروں اور تفریح کی بڑی حد موجود ہے۔ برامپٹن میں کچھ کرنے کے لیے ہمیشہ کوئی نہ کوئی پر جوش چیز موجود ہوتی ہے۔"

- میئر لنڈا جیفری

برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔ ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتی، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے علیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انوویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عالمی کامیابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم متنوع آرہن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہم برامپٹن کو ایک ایسے مربوط شہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ ہمیں [ٹوئٹر](#) اور [فیس بک](#) پر فالو کریں۔ www.brampton.ca پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ
نتالی سٹوگڈیل
میڈیا کوآرڈینیٹر
سٹی آف برامپٹن

natalie.stogdill@brampton.ca | 905.874.3654